

7284 - یوم عرفہ کی فضیلت

سوال

یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یوم عرفہ کے فضائل میں سے کچھ یہ ہیں :

1 - اس دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا

صحیحین میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا اے امیر المومنین تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے ؟

اس نے کہا : **اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المائدة: 3** .

آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا -

تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے :

ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے ، جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ عرفہ میں تھے -

2 - عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں -

اسے اصحاب السنن نے روایت کیا ہے -

اور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا :

یہ آیت **اليوم اكملت** جمعہ اور عرفہ والے دن نازل ہوئی ، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں -

3 - یہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے :

اور عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات قسم بھی عظیم الشان والی چیز کے ساتھ اٹھاتی ہے ، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے :

وشاهد ومشهود البروج (3) حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم -

ابو ہریرہ رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شاہد جمعہ کا دن ہے) اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن قرار دیا ہے -

اور یہی دن الوتر بھی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں قسم اٹھائی ہے **والشفع والوتر** اور جفت اور طاق کی قسم - الفجر (3)

ابن عباس رضي الله تعالى عنہما کہتے ہیں الشفع عید الاضحیٰ اور الوتر یوم عرفہ ہے ، عکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہی ہے -

4 - اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے :

قتادہ رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزہ کے بارہ میں فرمایا :

(یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے) صحیح مسلم -

یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا ، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ، لہذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے -

5 - یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا :

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا :

کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ؟ سب نے جواب دیا کیون نہیں ! ہم سب گواہ بنتے ہیں ، تا کہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس محض بے خبر تھے ، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے ، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا ؟ الاعراف (172-173) مسند احمد ، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ۔ تو اس طرح کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہدو میثاق ہے ۔

6 - اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے :

صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث مروی ہے کہ :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا ، اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ؟)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو میرے پاس گردوغبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں) مسند احمد علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ۔

واللہ اعلم .